



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release

November 21, 2017

For immediate release

SECP orders inquiry into leakage of trading information

ISLAMBAD, November 21: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has ordered an investigation into the leakage of trading information of Pakistan Stock Exchange (PSX).

While taking a serious notice of various complaints received, the SECP constituted a team with a mandate to immediately start the investigation proceeding to identify and curb the sources of such unlawful practices and take necessary corrective and punitive actions.

In order to achieve this objective, the Commission will engage the services of professionals/experts as deemed necessary and ensure fair and early disposal of this investigation.

The SECP believes that sanctity of trading information holds paramount importance for growing confidence of investors in the capital market and any leakage/unauthorized access of trading data qualifies to be a criminal offence under the relevant laws. Such unlawful access and leakage puts the investors at inherent disadvantage and may also expose them to unwarranted risks.

The SECP remains committed to ensuring protection of interests of investors at all times and take stern action against any illegal activity in the capital market of Pakistan.

ایس ای سی پی نے پاکستان سٹاک ایکس چینج سے ٹریڈنگ ڈیٹا افشاء ہونے کے معاملہ پر تحقیقات کا حکم دے دیا

اسلام آباد (نومبر 21) سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے سٹاک ایکس چینج میں ٹریڈنگ سے متعلقہ معلومات کے افشاء کے معاملہ پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف شکایات موصول ہونے پر کمیشن نے فوری طور پر تحقیقات کے لئے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جیسے کہ۔ تحقیقاتی ٹیم معلومات اور ڈیٹا کے غیر قانونی افشاء کے ذرائع اور ذمہ دار افراد یا گروہ کی نشان دہی کرے تاکہ انہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جاسکے۔ تحقیقاتی ٹیم صورت حال کی بہتری کے لئے سفارشات بھی دے گی۔

- ایس ای سی پی یقین رکھتا ہے کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے حوالے سے سٹاک ایکس چینج کا ٹریڈنگ ڈیٹا اور معلومات انتہائی اہمیت اور تقدس کا حامل ہے اور اس ڈیٹا اور معلومات کا غیر قانونی افشاء اور اس ڈیٹا تک غیر قانونی رسائی متعلقہ قوانین کے تحت ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس قسم کی رسائی اور اس کا افشاء سرمایہ کاروں کے لئے نقصان دہ ہے بلکہ بعض اوقات ان کو خطرات سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ ایس ای سی پی سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لئے پرعزم ہے اور اس حوالے سے کسی بھی سرگرمی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔